



اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت چیخ چیخ کر رونے والی، بال مندوانے والی اور کپڑے پہاڑنے والی عورتوں سے براءت کا اظہار کیا

ابو بردہ بن ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے زیادہ بیمار ہو گئے (بیماری اتنی سخت تھی کہ) بے ہوش ہو گئے ان کا سر ان کے گھر کی ایک عورت کی گود میں تھا، (جو اونچی آواز میں رو رہی تھی) اور وہ (بے ہوشی کے سبب) اسے کوئی جواب نہ دے سکے لہذا جب ہوش میں آئے تو فرمایا: میں ان تمام لوگوں سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت چیخ چیخ کر رونے والی، بال مندوانے والی اور کپڑے پہاڑنے والی عورتوں سے براءت کا اظہار کیا

[صحیح] [متفق علیہ]

ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ایک بار بہت زیادہ بیمار ہو گئے بیماری اتنی سخت تھی کہ نوبت بے ہوشی تک پہنچ گئی اس وقت ان کا سر ان کے گھر کی کسی عورت کی گود میں تھا، جو ان کی بیماری دیکھ کر چیخ چیخ کر رونے اور نوحہ کرنے لگی لیکن بے ہوشی کے سبب وہ کوئی جواب نہ دے سکے لہذا ہوش میں آئے تو فرمایا: میں ان تمام لوگوں سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل عورتوں سے براءت کا اظہار کیا ہے: صالقا: مصیبت کے وقت چیخ چیخ کر رونے والی عورت حالقا: مصیبت کے وقت بال مندوانے والی عورت شاقا: مصیبت کے وقت کپڑے پہاڑنے والی عورت کیوں کہ یہ دور جاہلیت کے امور ہیں اسلام کا حکم یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت صبر سے کام لیا جائے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی جائے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4849>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

